

تھارن کلف پارک ڈرائیو بائیک لین کی تشکیل نو

تاریخ آغاز: جولائی 2021 تاریخ اختتام: جولائی 2021
*ٹائم لائن تبدیل ہو سکتی ہے۔

سٹی آف ٹورنٹو اور ولی بولیورڈ کے جنوب میں تھارن کلف پارک ڈرائیو میں بائیک لین کی تشکیل نو کرے گی۔

کمیونٹی اور مقامی کونسلر سے موصولہ تاثرات کی بنیاد پر، ٹرانسپورٹیشن سروسو نے حفاظت سے سمجھوتہ کیے بغیر پارکنگ کی انتہائی ممکن جگہوں کی سہولت بہم پہنچانے کے لیے تھارن کلف پارک ڈرائیو میں بائیک لینوں کی تشکیل نو کا ڈیزائن بنایا ہے۔ نئے ڈیزائن میں پارکنگ کی 40 جگہیں شامل ہیں، جو نیچے نقشے پر دکھائی گئی ہیں۔


اس کے علاوہ، TTC حالیہ 14 بس اسٹاپس میں سے دو کو ہٹائے گا تاکہ اسٹاپس کی تنگ جگہوں کو کم کیا جائے اور بس کی معتبریت بڑھائی جائے۔

لوگوں کی سائیکلنگ اور ڈرائیونگ کے بیچ بفر میں طبعی علیحدگی کا اضافہ کیا جائے گا۔

کووڈ-19 اور ٹورنٹو میں تعمیری کام کے بارے میں اہم معلومات

تعمیر کے دوران، ٹھیکیدار اونٹاریو کی مشغلہ جاتی صحت و سلامتی ایکٹ کے تحت سائٹ پر صحت و سلامتی کا ذمہ دار ہے اور اس سے COVID-19 کی تخفیف کے طرز عمل کو نافذ کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ COVID-19 کے حوالے سے سٹی کے جوابی اقدام سے متعلق مزید معلومات کے لیے، براہ کرم toronto.ca/covid-19 ملاحظہ کریں۔

کام والے علاقے کا نقشہ




کام کی تفصیلات

سٹی کا ٹھیکیدار:

- سڑک پر موجود نشانات میں تبدیلیاں کرے گا
- علامتی تختی تبدیل کر کے دکھائے گا کہ کہاں پر پارکنگ کی اجازت ہے
- سائیکل چلانے والے لوگوں کو گاڑیوں سے الگ کرنے کے لیے کنکریٹ کے کنارے اور فلیکس بولارڈ نصب کرے گا

تعمیر کے دوران کس چیز کی توقع کریں

- آپ کو دھول، شور اور دیگر زحمتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سٹی ہذا ان اثرات کو کم کرنے کی کوششیں کرے گی۔ ہم آپ کے حوصلے کی ستائش کرتے ہیں۔
- سٹی ہذا سٹی کی پراپرٹی میں نجی طور پر زیر ملکیت کسی آٹم کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔

<p>کام کے اوقات: پگھٹنڈی کے نشانات رات میں نصب کیے جائیں گے اور دیگر سارا کام دن کے اوقات میں ہوا کرے گا۔ شور و غل والا کام زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک دن کی ساعتوں تک محدود رکھا جائے گا۔</p>	
<p>سڑک اور بغلی راستے تک رسائی: کام کو محفوظ انداز میں مکمل کرنے کے لیے، کام کے حلقے کے اندر سڑک پر پابندیاں نافذ ہوں گی۔ ایمرجنسی والی گاڑیوں کے لیے رسائی ہمہ وقت برقرار رکھی جائے گی۔ ڈرائیو وے تک رسائی: ٹھیکیدار آپ کی ڈرائیو وے تک رسائی کی کسی عارضی پابندی سے آپ کو مطلع کرے گا۔ اگر آپ کے مکان میں دو داخلی راستے ہیں تو ایک کو ہمہ وقت کھلا رکھا جائے گا۔</p>	
<p>ٹریفک کا نظم و نسق: سڑک کا استعمال کرنے والوں کو صرف معمولی تاخیر اور اضافی ٹریفک کی توقع رکھنی چاہیے۔ موٹر سواروں کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تعمیر کے دوران سائیکلیں اور کاریں لین شیئر کر سکتی ہیں۔ گاڑی چلاتے وقت، براہ کرم سڑک استعمال کرنے والے مصیبت زدہ افراد کا خیال رکھیں۔</p>	
<p>سائٹ کی حفاظت: سائٹ پر موجود کارکنان خود کو تفویض کردہ کام کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کو تعمیر سے متعلق سوالات درپیش ہیں یا سائٹ پر کوئی مسئلہ ہے تو – سائٹ کے معائنہ کار کے پاس بھجوانے کو کہیں۔ اگر سائٹ کے معائنہ کار دستیاب نہ ہوں تو، اس نوٹس کے آخر میں مندرج فرد سے رابطہ کریں۔</p>	
<p>جسمانی دوری بنانا: ایسے اوقات آتے ہیں جب ٹھیکیداروں کو آن سائٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مکان مالکوں سے مواصلت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ڈرائیو وے تک رسائی، پانی کی بندش، قبل از تعمیر معائنوں، اور سائٹ کی بحالی والے کام (لینڈ اسکپنگ، پیورز نصب کرنا، وغیرہ) کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیکیدار کا عملہ کافی حد تک مرئی کپڑے سے قابل شناخت ہوگا اور وہ جسمانی دوری برقرار رکھے گا۔</p>	
<p>پارکنگ: اس پروجیکٹ سے آن سائٹ پارکنگ متاثر ہوگی۔ فعال کام کے حلقے میں پارکنگ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تعمیری آلات اور سامان کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی پارک کردہ گاڑی سے تعمیری کار متاثر ہوتا ہے تو، اسے دوسری جگہ کر دیا جائے گا نیز مالک سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا۔ اس کے مقام کے لیے براہ کرم 416-808-2222 پر کال کریں۔</p>	
<p>قابل رسائی سہولت: سٹی کے ٹھیکیدار پر یہ یقینی بنانا لازم ہے کہ تعمیر کے دوران ہر کسی کے لیے قابل رسائی گلیبارے اور داخلہ کے راستے برقرار رکھے گئے ہیں۔ رسائی میں کسی بھی عارضی خلل سے جتنی جلدی ممکن ہوگا مطلع کیا جائے گا۔ اگر آپ کو خلل کا سامنا ہوتا ہے، مخصوص رسائی درکار ہے یا متعلقہ سہولت کی درخواست ہے تو، ذیل میں مندرج پروجیکٹ مینیجر کو مطلع کریں۔</p>	

مزید معلومات درکار ہیں؟

اگر اس تعمیری پروجیکٹ کے بارے میں آپ کے سوالات ہوں تو، براہ کرم ذیل میں مندرج عملہ سے رابطہ کریں، اگر آپ کو تعمیری سائٹ پر موجود عملہ سے بات کرنی ہو تو – براہ کرم سائٹ کے معائنہ کار کو پوچھیں، جسمانی دوری برقرار رکھنے کا احترام کریں اور ماسک پہنیں۔

<p>ایڈم پوپر، 416-392-8234، adam.popper@toronto.ca</p>	<p>پروجیکٹ مینیجر</p>
<p>416-338-0889 (روزانہ 8 بجے صبح تا 5 بجے شام، تعطیلات کو بند رہتا ہے)</p>	<p>TTY سماعتی نقص سے متعلق خدمت</p>
<p>311</p>	<p>عمومی استفسارات</p>
<p>toronto.ca/bikeflemingdonthorncliffe</p>	<p>ویب سائٹ</p>